



Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعنی عربی

سورة الطور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.1
وَالْطُورِ

قسم ہے طور کی،

.2
وَكِتَابٌ مَسْطُورٌ

اور لکھی کتاب کی

.3
فِي سَاقٍ مَنْشُورٍ

کشادہ ورق میں،

.4
وَالْبَيْتَ الْمَعْمُورِ

اور (قسم ہے) آبادگھر کی،

.5
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ

اور اوپجی چھت کی،

.6

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

اور ابلتے (موجن) دریا کی،

.7

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

بیشک عذاب تیرے رب کا (واقع) ہونا ہے۔

.8

مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ

اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا۔

.9

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا

(واقع ہو گا) جس دن لرزے آسمان کپکا کر،

.10

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا

اور پھریں پہاڑ چل کر۔

.11

فَوْيَلٌ يَوْمَئِنِ لِلْمَكَنَّبِينَ

سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی،

.12

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ

جو (آج) باتیں بناتے ہیں کھیلتے۔

.13

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَّا

جس دن دھکیلے جائیں دوزخ کو دھکیل (دھکے مار) کر۔

.14

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
 (کہا جائے گا) یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے،

.15

أَفَسِحْرُهُدَّاً أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبَصِّرُونَ
 اب بھلا یہ جادو ہے، یا تم کو نہیں سوچتا؟

.16

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُو أَوْ لَا تُصْبِرُو وَاسْوَاءُ عَلَيْكُمْ
 پیڑھو (جاو) اس میں، پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو، تم کو برابر ہے۔
 إِنَّمَا تُبْعِزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔

.17

إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٌ
 جو ڈر والے (متقی) ہیں، باغوں میں ہیں اور نعمت میں،

.18

فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
 میوے کھاتے، جو دیئے ان کے رب نے،
 وَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ
 اور بچایا ان کے رب نے دوزخ کی مار (عذاب) سے۔

.19

كُلُوا وَاشْرُبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 کھاؤ اور پیو رچ (مزے) سے، بدلہ اس کا جو کرتے تھے،

.20

مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ

(وہ) لگے بیٹھے تختوں (مندوں) پر، برابر بچھے قطار (قطار اندر قطار)۔

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِجُنُوبِ عَيْنٍ

اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں، بڑی آنکھوں والیاں۔

.21

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْقَنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

جو یقین لائے، اور ان کی راہ چلی ان کی اولاد ایمان سے، پہنچادیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو،

وَمَا أَلْقَنَا هُمْ مِنْ عَمَلٍ هُمْ مِنْ شَيْءٍ

اور گھٹایا نہیں ان سے ان کا کیا کچھ۔

كُلُّ امْرٍ يِبْدِئُ بِمَا كَسَبَ رَاهِينَ

ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا (رہن) ہے۔

.22

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَآكِهَةٍ وَلَحْمٍ هِمَّا يَشْتَهُونَ

اور ریل لگادیئے (دیے چلے جائیں گے) ہم نے میوے اور گوشت، جس چیز کا جی چاہے۔

.23

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ، نہ بکنا (بیہودہ بات) ہے اس شراب میں نہ گناہ میں ڈالنا،

.24

وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ غَلْمَانٌ لَهُمْ كَأْنَهُمْ لَوْلَوْ مَكْنُونٌ

اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھو کرے ان کے، گویا وہ موتی ہیں غلاف میں دھرے۔

.25

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

اور منه کیا ایکوں (ایک جیسوں) نے دوسروں کی طرف، آپس میں پوچھتے،

.26

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

بولے ہم بھی تھے اپنے گھر میں ڈرتے رہتے،

.27

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَاتَ عَذَابَ السَّمُومِ

پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر، اور بچایا ہم کولوں (جلسادینے والی ہوا) کے عذاب سے۔

.28

^{صَلَّى}
إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ

ہم آگے سے (پچھلی زندگی میں) پکارتے تھے اس کو۔

إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

بیشک وہی ہے نیک سلوک رحم والا۔

.29

فَذَكِّرْ

(اے پیغمبر!)اب تو سمجھ (نصیحت کرتے رہو)

فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا بَجْهُونِ

کہ تو اپنے رب کے فضل سے پریوں والا (کاہن) نہیں نہ دیوانہ۔

.30

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّزَّبَ صُنْبِهِ رَأْيُبَ الْمُؤْنِ

کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم راہ دیکھتے (انتظار کرتے) ہیں اس پر گردش زمانے کی۔

.31

قُلْ تَرَبَّصُوا فِيٰنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ

تو کہہ، تم راہ دیکھو (انتظار کرو)، کہ میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں۔

.32

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا

کیا ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں ان کو،

أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

یا وہ لوگ شرارت پر ہیں؟

.33

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ

یا کہتے ہیں کہ یہ بات بنا (قرآن گھٹ) لایا؟

بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ

کوئی نہیں! پران کو یقین نہیں؟

.34

فَلَمَّا آتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلَهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

پھر چاہیئے لے آئیں کوئی بات (کلام) اسی طرح کی، اگر وہ سچے ہیں۔

.35

أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخالقُونَ

کیا وہ بن گئے (پیدا ہوئے) ہیں آپ ہی آپ یا وہی (خود ہی) ہیں بنانے (خالق) والے؟

.36

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

یا انہوں نے بنائے آسمان اور زمین؟

بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ

کوئی (ہرگز) نہیں! پر یقین نہیں کرتے۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنٌ رَّبِّيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ

کیا انکے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے یا وہی داروغے ہیں (ان پر)؟

^{صَلَّى}
أَمْ هُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ

کیا ان پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر مُن آتے ہیں؟

فَلَيْأَتِ مُسْتَمْعِهِمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

تلے آئے جو ستا ہے ان میں ایک سند کھلی۔

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنْوَنَ

کیا اس (اللہ) کے ہاں بیٹیاں اور تمہارے ہاں بیٹے؟

أَمْ تَسْأَهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرِبٍ مُّثْقَلُونَ

کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ نیگ (اجر)! سوان پر چٹی کا بوجھ ہے۔

أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ

کیا ان کو خبر ہے بھید (غیب) کی سوہ لکھ رکھتے ہیں؟

^{صَلَّى}
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا

کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا؟

.37

.38

.39

.40

.41

.42

فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُكَيْدُونَ

سو جو منکر ہیں، وہی آتے ہیں داؤ میں۔

ج
أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا؟

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ

وَهُنَّا اللَّهُ نَزَّلَ (پاک) ہے ان کے شریک بتانے سے۔

وَإِنْ يَرَوْا كِتَابًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ أَقْطَلُوا سَاحَابَةَ مَرْكُومٍ

اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے گرتا، کہیں یہ بدلتی ہے گاڑھی۔

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ

سو (اے نبی) تو چھوڑ دے ان کو جب تک ملیں اپنے دن سے، جس میں ان پر کڑا کا (سختی) پڑے گا۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا دادا کچھ، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذُلِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اور ان گناہگاروں کو ایک مار ہے اس سے ورے (پہلے)، پر وہ بہت لوگ نہیں جانتے۔

وَاصْبِرْ لِهُ كِمْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا صَلَّى

اور تو ٹھہر ارہ منتظر اپنے رب کے حکم کا کہ تو ہماری آنکھ کے سامنے ہے،

.43

.44

.45

.46

.47

.48

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

اور پاکی بول (تبیح کر) اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَإِذْبَارَ النُّجُومِ

اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی، اور پیٹھ دیتے (پلٹتے) وقت تاروں کے۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com